

بچوں کے لئے بائبل
تحائف



شہزاد چہ
بنان پوہل



تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: E. Frischbutter; Sarah S.

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2024 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



اکہ دوہہ وچھ موسیٰ بن اکھ مصری اُکس عبرانی
غلامس لایان۔ گوزِ موسیٰ اوس رچھنہ پالنہ اُمّت

فرعون سنّدس محلہ خانس منز۔ تہ

اکیس شہزادِ سنّدی پاٹھی اوس ژھٹہ بٹہ
دراُمّت تہ تعلیم و تربیت حاصل کرِ مژ۔

مگر مؤلہ تلہ اوس سہ

عبرانی۔ تس پیو اُمس

عبرانی غلامس

مدد کرُن۔




پانس اندی پُکی نظرا دتہ زِ کائہہ ما چُھ وچہان کور موسیٰ بن اُمس غلامس لاین
وَألس مألکس پیٹھ حملہ۔ اتھ لایہ لایہ منز زُھن موسیٰ بن یہ مصری از جان گرتہ۔
تہ نین جلدی جلدی اُمسنز لاش دوبراوتہ۔



دویمہ دوہہ وُچھ موسیٰ بن زِ عبرانی پانہ وائی لایہ لایہ کران۔ امی گریہ لڑائے ژھیو
راونچ کوشش۔ اکھ لایہ لایہ کرن وول ووٹھس "ژ کیاہ میٹہ مارکھا ٹمس راتہ کِس
مصری سندی پاٹھی۔" موسیٰ ہس ژاو بے تہ خوف۔ گو پربتھ کانہہ اوس زانان زِ راتھ
کیاہ گو۔ فرعون تہ۔ موسیٰ ہس پیوژلن۔ سہ ژول مدیان ناوی ملکس گن۔



يمہ وز موسیٰ اُکس کریرس نکہ تھکھ کڈان اوس، مديان کس اُکس مذہبی
پیشوا سنز ستھ کور آسہ آب بران پنس مألے سندس جس تریش دنہ باپتھ۔



مگر باقی جبہ والی اسی یمن تھوس انان تہ واری کھیوان۔ موسیٰ رود یمن
ڈکھس تہ کورنکھ (آب برنس) مدد۔



"توبہ کیا واژو از جلدے" کورین پُروژھ مائی
رُویلن۔ بیلہ کوریو یورِ پورِ دُلیل وُنِس۔ تُمی
وونکھ "گُڑھیو سُہ نفر انون یوری مے نشہ۔"
موسیٰ رود اُتی رُویلن نشی یمس یترِو
تہ ونان اُسی۔ کینہہ کال گُڑھتھ
کور موسیٰ بن رُویلنہ بجمہ
ہشہ کورِ سِتی کھاندر۔



پُیاری مُودِ مصرس منز فرعونَ تہ۔ خدایہ
سندی بندِ عبرائی رودی توتہ غلامی۔
تِم کوتاہ اُسی پنننِ یمن مصیبتن تہ
سِتمِ پنس پیٹھِ روانِ برسانِ آسان۔



تِم کوتاہ زارِ پارِ اُسی پنننِ خدایس
کران۔ آخر بوزِ خداین تہند۔



موسیٰ اوس پانہ بے خبر۔ مگر خداین بناؤ
سبیل یمن بے کس عبرانی غلامن مدد
کریچ۔ موسیٰ ہس اسی مصر منز درامتس
رتجی وری گامتی۔ سہ اوس وونی روائل سند
جب رچھان۔ مگر اندری اندری اہس پننن
مصری ین ہند ژھنہ گڑھنچ دگ وانج کوران۔



اڪه ڊوڻه وڇه موسيٰ بن نڪهه اڪس زندهس تل
نار ٻيو دزان مگر يه نار اوس نه بلڪل ته زندهس
زالان - موسيٰ هس گنيبه يه زانچ كل -



يُتَهَيَّ موسىٰ اِتِه نَكِه ووت، خدائِن دَرِس زَنَدِ مَنَزَمِ كَرِيكِه. موسىٰ! "يَكِيَاہ بِه
چُهَس" موسىٰ ہن وونُس۔ "زِيَاَدِ نَكِه مِه پَكِه۔" خدائِن وونُس۔ پِنِي نَالَانِي كَد نَبِر۔
يِتِه رِ چُهَكِه يِه جَا مِ چِهَرِ مُقَدَس۔



"بہ سوزتہ ژ فرعونس نشہ پنی لوکہ مصر منز کڈتہ انہ
باپتہ۔" خداین وونس۔ مگر موسی اوس تور گڑھنس کھوژان۔



خداین هوو موسیٰ بس پُن بَجْر۔ تُمی بنوو موسیٰ سندس عاصس سرُپھ۔



يٰٓاَيُّهَا مُوسٰى ۙ اِنِّىْ اَخٰتُكَ ۚ اِنِّىْ اَرْسَلْتُكَ اِلٰى فِرْعٰوْنَ بِآيٰتِىْ ۚ فَاَعْتَدَ لَكَ عَذٰبًا ۙ
خَدٰىنَ ۙ اَوْسٰى ۙ بِيَاكِهِۦ نَشٰٓئِنِىْ ۚ تَهٰۤـۤا




"پن اتہ تہاو سینس پٹہ" تھی دتس حکم۔ موسیٰ ہن کور یی۔
امسند اتہ سپد سفید میندی لد۔



يٰٓاَيُّهَا اُمِّي يَهْ عَمَلِ دَوَّهْرَاوِ اَتِهٖ اَوْسِ بِيِيَهٗ بَلِيوْمَتِ-



موسیٰ ہس اوس توتہ اعتراض۔ "مخّ چھنہ زیو سیدان۔" تھی وون خدایس۔
خدایس گو یہ برتبا۔ "بہ ہیّمہ چائس بایس ہارونس کام سہ بولہ تی یہ ژ تس
ونکہ" خداین وونس۔



موسیٰ ژاو پوٽ کھورے یترو سُنْد۔ پنی پلو شلو
تِلنی تہ دراو مصر کُن۔



خداین واتنوو ہارون پنس بایس موسیٰ ہس بالن

منز سمکھنہ خاطر۔ موسیٰ ہن وون ہارونس خدایہ

سنز سارے یڑھایہ ہند عبرانی لکھ مصرچہ غلامی

نشہ آزاد کرنہ باپتھ۔ یکہ وٹہ میلتھ واتناو یمو یہ

خبر عبرانی زٹھین تام۔ ییلہ موسیٰ ہن (خدایہ

سندی دتی متی) نشانہ عبرانی

زٹھین ہاوی، تموزون ز خدا

چھ اسہ مدتس۔ تموتراوی

یکہ وٹہ سر بہ سجد۔



كُنْه خوفه تِه بيمه وراي واتي هارون تِه موسي فرعون سندس
دربارس منز۔ "خدا چُه ونان ميانن بدن د نيرنہ"

تمو وون تس۔



"بہ دمہ نہ یمن اسرائیلین یتہ نیرنہ" فرعونن وونکھ اور۔ سہ مانہ
نہ خدا سُنڈ۔ خدایس چھہ پنی عظیم قوت ورتاوس آنی

فرعون سُنڈ دل تہ

دماغ بدلاونہ

بایتھ۔



شہزاد چھ بنان پوہل

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

جرت 2-5

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

